

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Assignment No. 2 (Unit 1 to 12)

Programme: B.Com. 4th Semester Batch 2024 NEP 2026

آڈٹ کے اصول اور عمل کاری

Subject: Auditing Principles and Practicing (BCMM403CCT)

Max Marks: 10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ۔ کسی دو سوالوں کے جواب دیں۔

1۔ تنقیح سے کیا مراد ہے؟

2۔ آڈٹ نوٹ بک میں نوٹ کئے جانے والے اہم نکات کی وضاحت کیجئے۔

3۔ آڈٹ پلاننگ کی وضاحت کیجئے؟

4۔ لاگت تنقیح سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے؟

حصہ دوم

(5 x 1 = 5)

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5۔ تنقیح کے فائدے اور اہمیت کو بیان کیجئے۔

6۔ کمپنی آڈیٹر کی اہلیت اور اس کے فرائض کو بیان کیجئے۔

7۔ انتظامی اور لاگت تنقیح کے درمیان امتیاز کیجئے۔

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

Centre for Distance and Online Education

Assignment No. 3 (Unit 13 to 24)

Programme: B.Com. 4th Semester

آڈٹ کے اصول اور عمل کاری

Subject: Auditing Principles and Practicing (BCMM403CCT)

Max Marks: 10

Last Date: See Notice

حصہ اول

(2.5 x 2 = 5)

نوٹ: کسی دو سوالوں کے جواب دیجئے

1۔ اسٹراٹجک پلاننگ سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے؟

2۔ کارپوریٹ گورننس کے مقاصد کو بیان کیجئے۔

3۔ کارپوریٹ گورننس کے مختلف کمیٹیوں کو بیان کیجئے۔

4۔ اخلاقی رویہ سے کیا مراد ہے۔

حصہ دوم

(5x1=5)

نوٹ کسی ایک سوال کا جواب دیجئے۔

5۔ کارپوریٹ گورننس کے نظریات بیان کیجئے۔

6۔ کاروباری اخلاقیات کی تعریف کرتے ہوئے اس کے اہمیت کو بیان کیجئے۔

7۔ کارپوریٹ کی سماجی ذمہ داریوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کے خصوصیات کو بیان کیجئے۔